




(uten bilde)

III nivå 2

Ⓐ arabisk

- ☞ Heba Tesheh, Maaozia Haj Mabrouk
- ☞ Vusi Malindi
- ☞ Ursula Nafula



Denne fortellingen kommer fra African Storybook (africanstorybook.org) og er videreført midlert av Barnebøker for Norge (barnebøker.no), som tilbyr barnebøker på mange språk som snakkes i Norge.

Overrett av: Heba Tesheh, Maaozia Haj Mabrouk

Illustrert av: Vusi Malindi

Skrevet av: Ursula Nafula

جذل

barnebøker.no

**Barnebøker for Norge**




جذل



كَانَ لِقَرْيَتِي الْعَدِيدُ مِنَ الْمَشَاكِلَ. فَنَحْنُ نَقْفُ صَفَّا  
طَوِيلًا لِتَجْلِبَ الْمَاءَ مِنْ صَنْبُورٍ وَاحِدٍ.

ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରମିଲା ମାତ୍ରାମଣି





صَرَخَنَا جَمِيعاً: "يَحْبُّ عَلَيْنَا تَغْيِيرٌ حَيَاتِنَا". مِنْ  
الْيَوْمِ سَنَعْمَلُ مَعًا لِحَلِّ مَشَاكِلِنَا.

وَنُقْفِلُ أَبْوَابَ مَنَازِلِنَا بَاكِرًا خَوْفًا مِنَ الْلُّصُوصِ.

၆၉။ မန္တာရီ ၁၃၅၆ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်သူ့ အမြန် လျော့လွှာ ဖြစ်ပါသည်။

၆၁။ မန္တာရီ ၁၃၅၇ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်သူ့ အမြန် လျော့လွှာ ဖြစ်ပါသည်။




وَالْفَتِيَاتُ الصَّغِيرَاتُ يَعْمَلْنَ خَادِمَاتٍ فِي الْقُرَى  
الْأُخْرَى.

قَالَتْ امْرَأَةٌ: "النِّسَاءُ يَسْتَطِعْنَ الْانْضِمَامَ إِلَيَّ لِزِرَاعَةِ  
الْمَحَاصِيلِ الْغَذَائِيَّةِ".

ଶ୍ରୀ | ପାତାର କୁଟୀ ଜାଗି | ପାତାର  
ପାତାର କୁଟୀ | ପାତାର କୁଟୀ ଜାଗି | ପାତାର କୁଟୀ



କାହିଁ ପାତାର କୁଟୀ ଜାଗି |  
କାହିଁ ପାତାର କୁଟୀ ଜାଗି | କାହିଁ ପାତାର କୁଟୀ




وَقَفَ أَبِي وَقَالَ: "نَحْنُ بِحَاجَةٍ لِأَنْ نَعْمَلَ مَعًا لِحَلِّ  
الْمُشْكَلَةِ".

عِنْدَمَا تَهُبُ الْرِّيَاحُ، تَعْلَقُ مُخْلَفَاتُ الْأَوْرَاقِ عَلَى  
الْأَشْجَارِ وَالْأَسْوَارِ.

• ایڈیشن 6 میں تین ہزار پانچ سو سی ایکٹری کے پاس



• ایڈیشن 1 میں تین ہزار پانچ سو سی ایکٹری کے پاس



وَفِي أَحَدِ الْأَيَّامِ جَفَّ الصَّنْبُورُ، وَأَصْبَحَتْ أُوْعِيَّتَنَا فَارِغَةً.

دَارَ أَبِي مِنْ مَنْزِلٍ إِلَى مَنْزِلٍ، لِيَدْعُوهُمْ لِاجْتِمَاعٍ الْقَرِيبَةِ.